

برائے فوری اجراء

## ریلوے کراسنگز کو محفوظ تر بنانے کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن آپریشن لائف سیور میں شمولیت اختیار کر رہا ہے

برامپٹن، آن (24 ستمبر 2021) – آج سٹی آف برامپٹن نے آپریشن لائف سیور کینیڈا اور HUB سرفیس سسٹمز کے اشتراک سے برامپٹن گو اسٹیشن پر ریلوے کو محفوظ تر بنانے کے حوالے سے نئے ڈیکل (علامات و نشانات) سے پردہ کشائی کی ہے، جو کمیونٹی سیفٹی پروگرام: *دیکھیں (Look)*، *سنیں (Listen)*، *زند رہیں (Live)* کا ایک حصہ ہے۔

ہر سال ریلوے کراسنگز پر ٹکراؤ کے واقعات کی وجہ سے درجنوں کی تعداد میں کینیڈا کے رہائشی جان بحق یا شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ [اپریشن لائف سیور](#) میونسپلٹیوں کے ساتھ مل کر ایسے مقامات کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پر ریلوے کو محفوظ تر بنانے کے حوالے سے ڈیکل نصب کیے جا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو ریل کراسنگ کے ارد گرد چوکس اور باخبر رہنے کی یاد دہانی کرائی جا سکے۔

ان ڈیکلز کا مقصد پیدل چلنے والوں، سائیکل سواروں اور ڈرائیوروں کو ریلوے کراسنگ کے ارد گرد چوکس رہنے کی ضرورت سے زیادہ آگاہ کر کے کراسنگ کے مقامات پر رونما ہونے والے افسوسناک واقعات کی روک تھام کرنا ہے۔ یہ ڈیکل ایک قسم کے تھرموپلاسٹک مواد سے بنے ہوئے ہیں جو فٹ پاتھوں کے نشانات کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ حد تک بڑھا دیں گے۔

برامپٹن کی روڈ آپریشنز ٹیم شہر میں موجود ریل کراسنگ کے آٹھ عدد مقامات پر یہ ڈیکل نصب کرے گی، جن میں درج ذیل شامل ہیں:

- مل اسٹریٹ اور ریل روڈ اسٹریٹ پر چار عدد ڈیکلز کی تنصیب؛ اور
- جیمز اسٹریٹ اور جانز اسٹریٹ پر چار عدد ڈیکل کی تنصیب۔

آپریشن لائف سٹار کے بارے میں مزید معلومات کے لیے [operationlifesaver.ca](http://operationlifesaver.ca) ملاحظہ کریں۔

### اقتباسات

"برامپٹن ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر ہے۔ مجھے آپریشن لائف سیور کے ساتھ شراکت داری کرنے پر فخر ہے کیونکہ اس اہم کام سے ریلوے کراسنگ کے ارد گرد موجود مقامات پر عوام کو چوکس رہنے کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دینے میں مدد ملے۔ یہاں تک کہ صرف ایک المیہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ اقدام اور یہ ڈیکل پوری کمیونٹی کے لیے میں آگاہی پیدا کریں گے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"آپریشن لائف سیور کے ساتھ اس شراکت داری کا مقصد عوام کو ریلوے کراسنگ کے ارد گرد کے مقامات پر خطرات سے زیادہ بہتر طور پر آگاہ کرنا اور زندگیاں بچانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ برامپٹن کے تمام رہائشیوں کی حفاظت ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور یہ بات لوگوں کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے زیادہ بہتر طور پر آگاہ رہیں۔"

- پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5، چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن اپنے رہائشیوں اور پوری کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ آپریشن لائف سیور کے ساتھ یہ شراکت داری برامپٹن میں تمام ریلوے کراسنگز کے ارد گرد پیدل چلنے والوں، سائیکل سواروں اور دیگر گاڑیوں کی حفاظت میں مدد فراہم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"اس پورے ملک میں ریلوے کراسنگز پر رونما ہونے والے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں اور یہ ہر متاثرہ خاندان اور دوستوں کے علاوہ ریلوے ملازمین، فوری امدادی اداروں اور کمیونٹیز کو برابر طور پر متاثر کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد عوام کو ریل کراسنگز کے ارد گرد موجودہ ممکنہ خطرات سے زیادہ بہتر طور پر آگاہ کرنا ہے، جس سے امید ہے کہ قیمتی جانیں بچیں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آہستہ ہو جائیں، اپنی دونوں جانب دیکھیں، ٹرینوں کے قریب آنے کے بارے میں جانیں اور ریلوے کے انتباہات کے تمام نشانات اور اشاروں کی تعمیل کریں۔"

- سارہ مائیز، نیشنل ڈائریکٹر آف آپریشن لائف سیور کینیڈا

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

#### میڈیا کنٹیکٹ

پرابجوت کینتھ  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Prabhjot.Kainth@brampton.ca](mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca)